

عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

(پیغمبر اللہ ﷺ) نے تیوری پڑھائی اور منہ پھیر لیا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾

کہ انکے پاس آیا ایک نابینا۔

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾

اور کیا تم کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿٣﴾

یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا (تمہارا) سمجھانا۔

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾

یہ کہ وہ جو پروا نہیں کرتا۔

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى ﴿٥﴾

سو تم اسکی طرف توجہ کرتے ہو۔

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾

حالانکہ نہیں تم پر (الزام) اگر نہ وہ سنورے۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى ﴿٧﴾

وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى^{لا}

اور یہ کہ وہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا۔

وَهُوَ يَخْشَى^{لا}

اور وہ (اللہ سے) ڈرتا بھی ہے۔

فَ اَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى^ج

تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ^ن

ہرگز نہیں۔ یہ (قرآن) تو نصیحت ہے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ^م

پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔

فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ^{لا}

ورقوں میں لکھا ہوا قابل تکریم۔

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ^{لا}

بلند مقام پر پاکیزہ۔

بِ اَيْدِي سَفَرَةٍ^{لا}

ہاتھوں میں ہیں ایسے لکھنے والوں کے۔

كِرَامٍ بَرَرَةٍ^ط

جو بلند مرتبہ اور نیکو کار ہیں۔

قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ^ط

مارا جائے انسان کیسا یہ ناشکر ہے۔

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ^ط

(اللہ نے) کس چیز سے اسے بنایا۔

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝^ط
۱۱

نطفے سے۔ اسے بنایا پھر اسکا اندازہ مقرر کیا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝^ط
۲۰

پھر راستہ آسان کر دیا اسکے لئے۔

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝^ط
۲۱

پھر اسکو موت دی سو اسے قبر میں پہنچا دیا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝^ط
۲۲

پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کریگا۔

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝^ط
۲۳

ہرگز نہیں اس پر عمل نہ کیا جو حکم دیا اسے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝^ط
۲۴

تو نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔

إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝^ط
۲۵

بیشک ہم نے برسایا پانی فراوانی سے۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝^ط
۲۶

پھر ہم نے چھاڑا زمین کو اچھی طرح۔

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝^ط
۲۷

پھر ہم نے اگایا اس میں اناج۔

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝^ط
۲۸

اور انگور اور ترکاری۔

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝^ط
۲۹

اور زیتون اور کھجوریں۔

اور باغات گھنے گھنے۔

وَحَدَائِقَ غُلْبًا^{لا}
۲۰

اور میوے اور چارا۔

وَأَفَاكِهِتٍ وَأَبَا^{لا}
۲۱

یہ سب کچھ تمہارے لئے اور تمہارے
موشیوں کیلئے۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَإِنْعَامِكُمْ^ط
۲۲

تو جب آئے گی کانوں کو پھاڑنے والی آواز۔

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ^ط
۲۳

اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ^{لا}
۲۴

اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ^{لا}
۲۵

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ^ط
۲۶

ہر شخص ان میں اس دن ایک فکر میں ہو گا جو
اسے سب سے بے نیاز کر دیگی۔

لِكُلِّ امْرِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
يُّغْنِيهِ^ط
۲۷

کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے۔

وَجُوهٌ يُّومِئِذٍ مُّسْفِرَةٌ^{لا}
۲۸

خداں شاداں۔

صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ^{لا}
۲۹

وَأُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ



اور کتنے پہرے (ایسے ہونگے) اس دن جن
پر گرد پڑ رہی ہوگی۔

تَرَاهُهَا قَتَرَةٌ



چٹھ رہی ہوگی ان پر سیاہی۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ



یہی لوگ ہونگے کفر کرنے والے بد کردار۔

